

Deu

Chapter 2

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיָּבֹאוּ	اور-ہم-مڑے	اور-کوچ-کیا	H5265	בְּיַבֵּן	-بیابان-کی-طرف	H1870	וַיָּסֹבְבוּ	سمندر-	H3220	וַיָּסֹבְבוּ	سوف	H5488	כַּיְסוּ	جیسا	H1696	וַיָּבֹאוּ	یہوواہ-نے	H3068	וַיָּבֹאוּ	مجھ-سے	H0413
	וַיָּבֹאוּ	اور-ہم-نے-چگر-لگایا	H5437	וַיָּבֹאוּ	کو-	H0853	וַיָּבֹאוּ	پہاڑ-	H2022	וַיָּבֹאוּ	سعیر	H3117	וַיָּבֹאוּ	دن	H3117	וַיָּבֹאוּ	بہت	H3117	וַיָּבֹאוּ	—	H3117	

پہاڑی کے ادوم یعنی سعیر ہم تک دیر کافی لگے۔ کرنے سفر طرف کی قُلازم بحر میں ریگستان کر مڑ پیچھے ہم تھا دیا حکم مجھے نے رب طرح پھر جس رہے پھرتے کنارے کنارے کے علاقے

2	וַיֹּאמְרוּ	اور-کہا	H0559	וַיֹּאמְרוּ	یہوواہ-نے	H3068	וַיֹּאמְרוּ	مجھ-سے	H0413	וַיֹּאמְרוּ	کہتے-ہوئے	H0559
---	-------------	---------	-------	-------------	-----------	-------	-------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

کہا، سے مجھ نے رب دن ایک

3	וַיֹּאמְרוּ	اور-کہا	H0559	וַיֹּאמְרוּ	یہوواہ-نے	H3068	וַיֹּאמְרוּ	مجھ-سے	H0413	וַיֹּאמְרוּ	کہتے-ہوئے	H0559
---	-------------	---------	-------	-------------	-----------	-------	-------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

کہا، سے مجھ نے رب دن ایک

4	וַיֹּאמְרוּ	اور-کہا	H0559	וַיֹּאמְרוּ	یہوواہ-نے	H3068	וַיֹּאמְרוּ	مجھ-سے	H0413	וַיֹּאמְרוּ	کہتے-ہوئے	H0559
---	-------------	---------	-------	-------------	-----------	-------	-------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

5	וַיֹּאמְרוּ	اور-کہا	H0559	וַיֹּאמְרוּ	یہوواہ-نے	H3068	וַיֹּאמְרוּ	مجھ-سے	H0413	וַיֹּאמְרוּ	کہتے-ہوئے	H0559
---	-------------	---------	-------	-------------	-----------	-------	-------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

سے احتیاط بڑی تو بھی گے۔ ڈریں سے تم وہ ہے۔ آباد اولاد کی عیسو بھائی تمہارے جہاں گے گزرو سے میں ملک کے سعیر تم میں دنوں اگلے بتانا، کو قوم گزرا۔

6	וַיֹּאמְרוּ	اور-کہا	H0559	וַיֹּאמְרוּ	یہوواہ-نے	H3068	וַיֹּאמְרוּ	مجھ-سے	H0413	וַיֹּאמְרוּ	کہتے-ہوئے	H0559
---	-------------	---------	-------	-------------	-----------	-------	-------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

7	וַיֹּאמְרוּ	اور-کہا	H0559	וַיֹּאמְרוּ	یہوواہ-نے	H3068	وַיֹּאمְרוּ	مجھ-سے	H0413	וַיֹּאمְרוּ	کہتے-ہوئے	H0559
---	-------------	---------	-------	-------------	-----------	-------	-------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

دیا کو اولاد کی اُس اور عیسو علاقہ پہاڑی کا سعیر نے میں گا۔ دوں نہیں بھی فٹ مربع ایک کا ملک کے اُن تمہیں میں کیونکہ چھیڑنا، نہ جنگ ساتھ کے اُن ہے۔

8	וַיֹּאמְרוּ	اور-کہا	H0559	וַיֹּאמְרוּ	یہوواہ-نے	H3068	וַיֹּאمְרוּ	مجھ-سے	H0413	וַיֹּאمְרוּ	کہتے-ہوئے	H0559
---	-------------	---------	-------	-------------	-----------	-------	-------------	--------	-------	-------------	-----------	-------

خریدو۔۔۔ کر دے پیسے ضروریات تمام کی پینے اور کھانے تم کہ ہے لازم

7	כִּי יְהוָה	אֱלֹהֵיךָ	בְּרַכְךָ	בְּכֹל	מַעֲשֵׂה	יָדְךָ	יָדַע	לְכַתְּבָךָ	אֶת-
	کیونکہ	تیرے-خدا-نے	برکت-دی-ہے-تجھے	ہر	کام	تیرے-ہاتھ-کے	جاننا-یے	تیرا-چلنا	کو
	H3068	H0430	H1288	H3605	H4639	H3027	H3045	H3212	H0853

	הַמְדַבֵּר	הַנְּדָל	הָזָה	וְזָה	אֲרַבְעִים	שָׁנָה	יְהוָה	אֱלֹהֵיךָ	עִמָּךְ	לֹא	חֲסֵרָת
	-بیابان	-بڑے	-اس	یہ	چالیس	سال	یہوواہ	تیرا-خدا	تیرے-ساتھ	نہیں	کمی-ربی-تجھے
	H2088	H2088	H2088	H0705	H8141	H3608	H0430	H3808	H2088	H2088	H2088

דָּבָר:

چیز
[H1697](#)

رب دوران کے سالوں 40 ان کی۔ نگہبانی تیری نے اُس دوران کے سفر پورے میں ریگستان وسیع اِس ہے۔ دی برکت پر اُس نے رب بے کیا نے تو کام بھی جو رہیں۔ ہوتی پوری ضروریات تمام تیری اور تھا، ساتھ تیرے خدا تیرا

8	וְנַעֲבָר	מֵאֵת	אֶתֵינוּ	בְּנֵי-	עֵשׂו	הַיְשָׁבִים	בְּשֵׁעִיר	מִדְרֹךְ	הָעֲרָבָה	מֵאֵילָת
	اور-ہم-گزرے	سے	ہمارے-بھائیوں	بنی-	عیسو	جو-رہتے-ہیں	-سعیر-میں	راستے-سے	-عربہ-کے	ایلت-سے
	H0854	H0251	H6215	H3427	H1870	H6160	H1870	H1870	H1870	H1870

	וְנָפְן	ס	וְנָפְן	וְנָפְן	מִדְבָר	מוֹאָב:
	اور-ہم-مڑے	—	اور-گزرے	راستے	بیابان	موآب
	H6437	H6100	H1870	H4124	H4124	H4124

عصیوں اور ایلات جو دیا چھوڑ راستہ وہ نے ہم نکلے۔ آگے سے راستے دوسرے تھی آباد اولاد کی عیسو بھائی ہمارے جہاں کر چھوڑ کو سعیر ہم چنانچہ لگے۔ بڑھنے طرف کی بیابان کے موآب اور بے پہنچاتا تک مُردار بحیرہ سے شہروں کے جابر

9	וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֵלַי	אֶל-	תֵּצֵר	אֶת-	מוֹאָב	וְאֶל-	הַתְּנָדָר	בָּם	מִלְחָמָה	כִּי
	اور-کہا	یہوواہ-نے	مجھ-سے	مت-	تنگ-کرو	کو-	موآب	اور-مت-	بھڑکو	انہیں	جنگ	کیونکہ
	H0559	H3068	H0413	H0408	H0853	H4124	H0408	H1624	H4421	H4421	H4421	H4421

	לֹא-	אֶתֵנוּ	לָךְ	מֵאֲרָצוֹ	יְרֻשָׁה	כִּי	לְבָנֵי-	לְאוֹט	נָתַתִּי	אֶת-	עָר
	نہیں-	دوں-گا-میں	تجھے	اُس-کی-زمین-سے	میراث	کیونکہ	-بنی-کو-	لوط	دیا-ہے-میں-نے	کو-	عار
	H3808	H5414	H3425	H0776	H3876	H6144	H0853	H5414	H0853	H6144	

יְרֻשָׁה:

میراث
[H3425](#)

نہیں تجھے حصہ بھی کوئی کا ملک کے اُن میں کیونکہ چھیڑنا، جنگ ساتھ کے اُن نہ اور کرنا نہ مخالفت کی باشندوں کے [] موآب کہا، سے مجھ نے رب وہاں ہے۔ [] دیا کو اولاد کی لوط کو شہر عار نے میں گا۔ دوں

10	הָאֲמִים	לְפָנַי	יָשְׁבוּ	בָּה	עַם	נְדָל	וְרָב	וְרָם	כְּעֵנְקִים:
	-ایمیں	پہلے	رہتے-تھے	اُس-میں	قوم	بڑی	اور-کتیر	اور-اونچی	عناقیم-جیسے
	H0368	H6440	H3427	H3427	H6062	H4125	H7121	H6062	H6062

تھے۔ زیادہ میں تعداد اور درازقد و، طاقت طرح کی اولاد کی عناق جو تھے رہتے وہاں ایمی پہلے

11	רְفָאִים	יְחָשְׁבוּ	אֶף-	הֵם	כְּעֵנְקִים	וְהַמְאָאִים	יְקָאוּ	لָהֶם	אֲמִים:
	رفائیم	سمجھے-جاتے-تھے	بھی-	وہ	عناقیم-جیسے	اور-موآبی	بلاتے-ہیں	انہیں	ایمیں
	H2803	H0637	H1992	H0637					

تھے۔ کہتے ایمی انہیں موآبی لیکن تھے، جاتے کئے شمار میں رفائیوں وہ طرح کی اولاد کی عناق

וּבְשִׁעָרַי וּבְשִׁעֵיר־מִיּוֹן יִשְׁבּוּ הַחֲרִים לְפָנָי וּבְנֵי עֵשׂוֹ יִירְשׁוּם וַיִּשְׁמְרוּם
اور-سعير-میں رہتے-تھے -حوری پہلے اور-بنی عیسو قبضہ-کیا-انہوں-نے اور-نابود-کیا-انہوں-نے
H3427 H2752 H6440 H6215 H3423 H8045

מִפְּנֵיהֶם אֲנִי-כִּי-גַגֶּה תַחֲתֵם כְּאִשָּׁר עֵשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאֶרֶץ יִרְשָׁתוֹ אֲשֶׁר-
ان-کے-سامنے-سے اور-بسے ان-کی-جگہ جیسا کیا اسرائیل-نے -سرزمین-کو اپنی-میراث جو-
H6440 H3427 H8478 H3478 H0776 H3425 H5414

יְהוָה לָהֶם: יְהוָה
یہوواہ-نے انہیں
H3068

ملک اُس میں بعد نے اسرائیلیوں طرح جس تھا۔ دیا نکال سے وہاں انہیں نے اولاد کی عیسو لیکن تھے، آباد میں سعیر حوری میں زمانے قدیم طرح اسی تھے۔ بوئے آباد جگہ کی اُن کے کر تباہ کو حوریوں بڑھتے بڑھتے اولاد کی عیسو طرح اسی تھا دیا انہیں نے رب جو کیا میں

עֲתָה אֲבִיבְךָ וְעֲבָרְךָ לָכֵם אֶת-נַחַל זְרָד וְנַעֲבָרְךָ אֶת-נַחַל זְרָד
اب اٹھو اور-پار-کرو اپنے-لیے کو- نالہ زرد اور-ہم-نے-پار-کیا کو- نالہ زرد
H6258 H0853 H2218 H0853 H2218

کیا۔ ہی ایسا نے ہم کرو۔ عبور کو زرد وادی کر جا اب کہا، نے رب

וְהִימָיִם אֲשֶׁר-וְהַלְכְנוּ בְּרִזְעֵמִקְדָּשׁ עַד אֲשֶׁר-עֲבָרְנוּ אֶת-נַחַל זְרָד שְׁלֹשִׁים
اور-دن جو- ہم-چلے قادش-برنیع-سے تک جب- ہم-نے-پار-کیا کو- نالہ زرد اڑتیس
H3117 H1980 H6947 H5704 H0853 H2218 H7970

וּשְׁמֹנֶה וְשָׁנָה עַד-אֲנִי כָל-הָאָדָם הַמְלַחֲמָה מִקָּרֵב הַמִּזְחָה כְּאִשָּׁר
اور-آٹھ سال تک- ختم-ہونا تمام- نسل مرد -جنگ-کے -درمیان-سے -لشکر-کے جیسا-کہ
H8083 H8141 H5704 H8552 H3605 H1755 H0376 H4421 H7130 H4264

נִשְׁבַּע יְהוָה לָהֶם: יְהוָה
قسم-کھائی یہوواہ-نے ان-کو
H7650 H3068

نے رب جیسا تھا ہوا ہی ویسا تھے۔ قابل کے کرنے جنگ وقت اُس جو تھے چکے مر آدمی تمام وہ اب تھے۔ گئے ہو سال 38 بوئے روانہ سے برنیع قادس ہمیں تھا۔ کہا کر کھا قسم

וְגַם יִרְ-יְהוָה תִּיתָה כָּם יְהוָה יְהוָה-יְהוָה יְהוָה
اور-بھی ہاتھ- یہوواہ-کا تھا ان-میں ان-کو-ہلاک-کرنے -درمیان-سے -لشکر-کے تک تمام-ہونے
H1571 H3027 H3068 H1961 H2000 H7130 H4264 H5704 H8552

رہا۔ نہ بھی مرد ایک کا نسل اُس میں گاہ خیمہ آخرکار باعث کے مخالفت کی رب

וַיְהִי כְּאִשֶּׁר-תָּמְנוּ כָּל-אֲנָשֵׁי הַמְלַחֲמָה לְמוֹת מִקָּרֵב הָעָם:
اور-ہوا جیسے-ہی- ختم-ہو-گئے تمام- مرد -جنگ-کے -درمیان-سے -قوم-کے
H1961 H8552 H3605 H0376 H4421 H4191 H7130

تھے گئے مر سب وہ جب

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֵלָי לְאָמֹר:
اور-بولا یہوواہ مجھ-سے کہتے-ہوئے
H1696 H3068 H0413 H0559

کہا، سے مجھ نے رب تب

אֲתָה עֹבֵר הַיּוֹם אֶת-נְבוֹלָא מוֹאָב אֶת-עַר:
تو گزر-رہا-ہے آج کو- سرحد موآب-کی کو- عار
H3117 H0853 H1366 H4124 H0853 H6144

ہے۔ گزرنا سے میں علاقے کے موآب کر ہو سے شہر عار تمہیں آج

19	وְקָרְבָנוּ	מִוֶּלָא	בְּנֵי	עֲמוֹן	אֶל-	הַזָּרָם	וְאֶל-	תַּחְנוּר	כָּם	כִּי
	اور-تو-قريب-آئے-گا	سامنے	بنی	عمون-کے	نہ-	ان-کو-تنگ-کر	اور-نہ-	لڑائی-کر	ان-سے	کیونکہ
	H7126	H4136		H5983	H0408		H0408	H1624		
	לֹא-	אָתָּן	מֵאֲרָץ	בְּנֵי-	עֲמוֹן	לָהּ	יְרֻשָּׁה	כִּי	לְבָנֵי-	לוֹט
	نہیں-	دوں-گا	زمین-سے	بنی-	عمون-کی	تجھ-کو	میراث	کیونکہ	بنی-	لوٹ-کو
	H3808	H5414	H0776		H5983		H3425		H3876	H5414

יְרֻשָּׁה:

میراث
[H3425](#)

تمہیں حصہ بھی کوئی کا ملک کے اُن میں کیونکہ چھیڑنا، جنگ ساتھ کے اُن نہ اور کرنا، نہ مخالفت بھی کی اُن گے۔ پہنچو تک علاقے کے عمونیوں تم پھر ہے۔ دیا کو اولاد کی لوط ملک یہ نے میں گا۔ دوں نہیں

20	אֲרָץ-	רְפָאִים	תְּחַשְׁב	אֶף-	הוּא	רְפָאִים	יִשְׁבוּ-	כָּה	לְפָנַיִם	וְהָעַמֻּנִים
	زمین-	رفائیوں-کی	شمار-ہوتی-ہے	بھی-	یہ	رفائیم	رہتے-تھے-	اس-میں	پہلے	اور-عمونی
	H0776		H2803	H0637	H1931		H3427		H6440	H5984

יְקָרְאוּ
بلاتے-ہیں

לָהֶם
انہیں

זְמֻמָּיִם:
زممی

[H2157](#)

[H7121](#)

تھے، کہتے زممی انہیں عمونی تھے۔ آباد وہاں میں زمانے قدیم جو تھا جاتا سمجھا ملک کا رفائیوں بھی ملک کا عمونیوں میں حقیقت

21	עַם	נְדוּל	וְרַב	נָרַם	כְּעֲנָקִים	וַיִּשְׁמְדֵם	יְהוָה	מִפְּנֵיהֶם
	قوم	بڑی	اور-کثیر	اور-لمبی	عناقیوں-جیسی	اور-فنا-کر-دیا	یہوواہ-نے	ان-کے-سامنے-سے
					H6062	H8045	H3068	H6440

וַיִּירָשׁוּ
اور-انہوں-نے-وراثت-کی

וַיִּשְׁבוּ
اور-بس-گئے

תְּחַתָּם:
ان-کی-جگہ

[H3423](#)

[H3427](#)

[H8478](#)

آگے آگے کے اُن کو رفائیوں نے رب تو آئے میں ملک عمونی جب تھے۔ درازقد جیسے اولاد کی عناق وہ زیادہ۔ میں تعداد اور ور طاقت تھے، قامت دیو وہ اور ہوئے، آباد جگہ کی اُن اور گئے نکالتے انہیں بڑھتے بڑھتے عمونی چنانچہ دیا۔ کر تباہ

22	כְּאִשָּׁר	עֲשָׂה	לְבָנֵי	עֵשָׂו	הַיִּשְׁבִּים	בְּשֵׁעִיר	אֲשֶׁר	הַשְּׂמִיד	אֶת-	הַחֲרִי
	جیسا-کہ	کیا	بنی-کے-لیے	عیساؤ-کے	رہنے-والوں-کے	سعیر-میں	جب	اس-نے-ہلاک-کیا	کو-	-حوریوں
				H6215	H3427			H8045	H0853	H2752

מִפְּנֵיהֶם
ان-کے-سامنے-سے

וַיִּירָשׁוּ
اور-انہوں-نے-وراثت-کی

וַיִּשְׁבוּ
اور-بس-گئے

תְּחַתָּם:
ان-کی-جگہ

עַד
تک

הַיּוֹם
آج

הַזֶּה:
اس

[H6440](#)

[H3423](#)

[H3427](#)

[H8478](#)

[H5704](#)

[H3117](#)

[H2088](#)

بڑھتے بڑھتے وہ بھی وہاں تھے۔ آئے میں ملک کے سعیر وہ جب تھا دیا کر تباہ کو حوریوں آگے آگے کے اولاد کی عیسو نے رب طرح جس طرح اسی بالکل ہوئے، آباد جگہ کی اُن اور گئے نکالتے کو حوریوں

23	וְהָעַיִים	הַיִּשְׁבִּים	בְּחֻצְרֵים	עַד-	עֵזָה	כְּפָתָרִים	הַיִּצְאִים	מִכְּפָתוֹר	הַשְּׂמִיד
	اور-عویم	رہنے-والے	بستیوں-میں	تک-	غزہ	کفتوریوں-نے	نکلے-ہوئے	کفتور-سے	ان-کو-فنا-کیا
	H5761	H3427	H2699	H5704	H5804	H3732	H3318	H3731	H8045

וַיִּשְׁבוּ
اور-بس-گئے

תְּחַתָּם:
ان-کی-جگہ

[H8478](#)

[H3427](#)

نے انہوں تو آئے سے کریتے یعنی کفتور کفتوری جب لیکن تھے، آباد تک غزہ عوی گیا۔ نکالا سے ملک کے اُس بھی کو عوی بنام قوم قدیم اور ایک طرح اسی گئے۔ بو آباد جگہ کی اُن اور دیا کر تباہ انہیں

24	קִימוּ וְעִבְרוּ אֶת-גִּחְלֵי אֲרֹנֹת רְאֵה נְתַתִּי בְּיָדְךָ אֶת-סִיחֹן	24	קִימוּ וְעִבְרוּ אֶת-גִּחְלֵי אֲרֹנֹת רְאֵה נְתַתִּי בְּיָדְךָ אֶת-סִיחֹן
	اٹھو کوچ-کرو اور-پار-کرو کو-نالہ ارنون دیکھو میں نے-دیا ہے تیرے-ہاتھ-میں کو-سیحون		اٹھو کوچ-کرو اور-پار-کرو کو-نالہ ارنون دیکھو میں نے-دیا ہے تیرے-ہاتھ-میں کو-سیحون
	H5511 H0853 H3027 H5414 H7200 H0769 H0853 H5265		H5511 H0853 H3027 H5414 H7200 H0769 H0853 H5265

مَلِكُ-بادشاہ-حسبون-کا	حֲשִׁבֹן וְאֶת-אֶרְצוֹ הַחֵלָּה רֶשׁ וְהִתְנַדֵּר בּוֹ מִלְחָמָה:
اموری اور-کو-اس-کی-زمین شروع-کر قبضہ-کرنا اور-چھیڑ اس-سے جنگ	اموری اور-کو-اس-کی-زمین شروع-کر قبضہ-کرنا اور-چھیڑ اس-سے جنگ
H2809 H4428	H4421 H1624 H3423

حوالے تمہارے سمیت ملک کے اُس کو سیحون بادشاہ اموری کے حسبوں میں کہ سمجھو یوں کرو۔ عبور کو ارنون وادی کر جا اب کہا، سے موسیٰ نے رب ڈھونڈو۔ موقع کا کرنے جنگ ساتھ کے اُس اور کرو شروع کرنا قبضہ پر اُس ہوں۔ چکا کر

25	הַיּוֹם הַזֶּה אֶחָלָה תָּת פַּחַדְךָ וַיִּרְאֶתְךָ עָל-פְּנֵי הָעַמִּים תַּחַת	25	הַיּוֹם הַזֶּה אֶחָלָה תָּת פַּחַדְךָ וַיִּרְאֶתְךָ עָל-פְּנֵי הָעַמִּים תַּחַת
	-آج -اس میں-شروع-کروں-گا ڈالنا تیرا-رعب اور-تیرا-خوف اوپر-چہروں-کے -قوموں-کے نیچے		-آج -اس میں-شروع-کروں-گا ڈالنا تیرا-رعب اور-تیرا-خوف اوپر-چہروں-کے -قوموں-کے نیچے
	H3117 H2088 H5414 H6343 H3374 H6440 H8478		H3117 H2088 H5414 H6343 H3374 H6440 H8478

כָּל-תָּמַם	יִשְׁמְעוּן אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּן שְׂמֵעָךְ וְרִגְזוֹ וְחָלָה מִפְּנֵי:
تمام-آسمان-کے جو سنیں-گے تیری-خبر اور-کانہیں-گے اور-درد-کھائیں-گے تیرے-سامنے-سے	تمام-آسمان-کے جو سنیں-گے تیری-خبر اور-کانہیں-گے اور-درد-کھائیں-گے تیرے-سامنے-سے
H3605 H8064 H8085 H7264 H6440	H3605 H8064 H8085 H7264 H6440

کانہیں اور گی تھرتھرائیں مارے کے خوف کر سن خبر تمہاری وہ گا۔ کروں پیدا خوف اور دہشت میں بارے تمہارے میں قوموں تمام میں سے دن اسی گی۔

26	וְאֶשְׁלַח מַלְאָכַי מִמִּדְבָּר קְדֵמוֹת אֶל-סִיחֹן מֶלֶךְ בַּדְבָּר וְדַבְּרִי שְׁלוֹם	26	וְאֶשְׁלַח מַלְאָכַי מִמִּדְבָּר קְדֵמוֹת אֶל-סִיחֹן מֶלֶךְ בַּדְבָּר וְדַבְּרִי שְׁלוֹם
	اور-میں-نے-بھیجے قاصد مہیاں-سے قديموت کی-طرف-سیحون بادشاہ حسبوں-کے باتیں صلح-کی		اور-میں-نے-بھیجے قاصد مہیاں-سے قديموت کی-طرف-سیحون بادشاہ حسبوں-کے باتیں صلح-کی
	H4397 H7971 H6932 H0413 H5511 H4428 H2809 H1697 H7965		H4397 H7971 H6932 H0413 H5511 H4428 H2809 H1697 H7965

لَا مَر: کہتے-ہوئے [H0559](#)

تھا، یہ وہ تھا۔ خالی سے مخالفت اور نفرت پیغام میرا بھیجے۔ قاصد پاس کے سیحون بادشاہ کے حسبوں سے قديمات دشت نے مے

27	אֶעֱבְרָה בְּאֶרְצְךָ בְּדֶרֶךְ רַאֲסֵי-בְּדֶרֶךְ אֶל-אֶסּוּר יִמִּין וּשְׂמֹאל:	27	אֶעֱבְרָה בְּאֶרְצְךָ בְּדֶרֶךְ رַאֲסֵי-بְּدֶرֶךְ אֶל-اَسُّور يَمِيْن وِشْمٰوْل:
	میں-گزروں-گا تیری-زمین-میں -راستے-سے -راستے-سے چلوں-گا نہیں مڑوں-گا دائیں اور-بائیں		میں-گزروں-گا تیری-زمین-میں -راستے-سے -راستے-سے چلوں-گا نہیں مڑوں-گا دائیں اور-بائیں
	H0776 H1870 H1870 H3212 H3808 H5493 H3225 H8040		H0776 H1870 H1870 H3212 H3808 H5493 H3225 H8040

گے۔ ہٹیں طرف دائیں نہ بائیں، نہ سے اُس اور گے رہیں ہی پر شاہراہ ہم دیں۔ گزرنے سے میں ملک اپنے ہمیں

28	אֶכְלֶה בְּכֶסֶף תִּשְׁבְּרֵנִי וְאֶכְלֵתִי וַיְמִים בְּכֶסֶף תִּתְּנֵנִי לִי וְשִׁתִּיתִי	28	אֶכְלֶה בְּכֶסֶף תִּשְׁבְּרֵנִי וְאֶכְלֵתִי וַיְמִים בְּכֶסֶף תִּתְּנֵנִי לִי וְשִׁתִּיתִי
	کھانا چاندی-سے تو-مجھے-بیچ اور-میں-کھاؤں-گا اور-پانی چاندی-سے تو-دے مجھے اور-میں-پیوں-گا		کھانا چاندی-سے تو-مجھے-بیچ اور-میں-کھاؤں-گا اور-پانی چاندی-سے تو-دے مجھے اور-میں-پیوں-گا
	H0400 H3701 H7666 H0398 H4325 H5414 H8354		H0400 H3701 H7666 H0398 H4325 H5414 H8354

רַק בְּסוּסֵי אֶעֱבְרָה בְּרִגְלֵי: بس میں-گزروں-گا پیدل [H7272](#)

دیں، گزرنے سے میں ملک اپنے پیدل ہمیں گے۔ دیں پیسے مناسب لئے کے ضروریات تمام کی پینے اور کھانے ہم

29	כְּאֶשֶׁר עָשָׂה לִי בְּנֵי עִשָׂאؤֹת-כֵּן עָשָׂה לִי בְּנֵי עִשָׂאؤֹת-כֵּן עָשָׂה לִי	29	כְּאֶשֶׁר עָשָׂה לִי בְּנֵי עִשָׂאؤֹת-כֵּן עָשָׂה לִי בְּנֵי עִשָׂאؤֹת-כֵּן עָשָׂה לִי
	جیسا-کہ کیا-میرے-لیے بنی-نے عیساؤ-کے -رہنے-والے سعیر-میں اور-موآبی -رہنے-والے عار-میں		جیسا-کہ کیا-میرے-لیے بنی-نے عیساؤ-کے -رہنے-والے سعیر-میں اور-موآبی -رہنے-والے عار-میں
	H6144 H3427 H4125 H3427 H6215		H6144 H3427 H4125 H3427 H6215

עַד-تک	אֶשְׁבֵּר-אֶת-הַיַּרְדֵּן אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-יְהוָה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נָתַן לָנוּ:
جب-میں-پار-کروں کو-یردن کی-طرف-اس-کی-طرف-جو-یہوواہ ہمارا-خدا دے-ریا-ہے ہم-کو	جب-میں-پار-کروں کو-یردن کی-طرف-اس-کی-طرف-جو-یہوواہ ہمارا-خدا دے-ریا-ہے ہم-کو
H5704 H0853 H3383 H0413 H0776 H3068 H0430 H5414	H5704 H0853 H3383 H0413 H0776 H3068 H0430 H5414

ملک وہ ہے، میں مغرب کے یردن دریائے منزل ہماری کیونکہ دیا۔ گزرنے ہمیں نے موآبیوں والے رہنے کے عار اور اولاد کی عیسو باشندوں کے سعیر طرح جس ہے۔ والا دینے ہمیں خدا ہمارا رب جو

36 מְעֹרֵר אֲשֶׁר עַל- שְׁפֹת- נַחַל אֲרָנוֹן וְהָעִיר אֲשֶׁר בְּנַחַל וְעַד- הַגְּלִיעָד לֹא עָרָוּ עִיר-סֵעַ H6177 גו- كئارے- H8193 نالہ- ارنون اور-شہر H0769 نالے-میں اور-تک- H5704 -جلعاد H1568 نہیں H3808

הַיְתָה קָרְיָה אֲשֶׁר שְׁנֵבָה מִמֶּנּוּ אֶת- הַגָּל נָתַן יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לְפָנֵינוּ: הָיָה שָׁהַר גו- اوئچا-بو H7682 ہم-سے H0853 کو- H3605 سب- H5414 دیا H3068 یہوواہ-نے H0430 ہمارے-خدا-نے H6440

رب تھا۔ میں ارنون وادی جو تھا شامل بھی شہر وہ میں اس پڑی۔ ماننی شکست کو شہر بر تک جلعاد کر لے سے عروعر واقع پر کنارے کے ارنون وادی دیا۔ کر حوالے ہمارے کو سب اُن نے خدا ہمارے

37 רָק אֶל- אֲרָץ בְּנֵי- עַמּוֹן לֹא קָרַבְתָּ כָּל- יָד נַחַל יַבֶּק וְעָרֵי רָק-سَاف- H7535 کی-طرف- H0413 زمین- H0776 بنی- H5983 عمون-کی H3808 نہیں H7126 تو-قرب-آیا H3605 سب- H3027 کنارے H2999 نالہ اور-شہروں

הָהָר-כֵּה- אֶל- אֲשֶׁר- צָוָה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ: הָהָר-کے اور-سب H3605 جو- H6680 حکم-دیا H3068 ہمارے-خدا-نے H0430

نے خدا ہمارے رب کیونکہ چھیڑا، کو شہروں کے علاقے پہاڑی کے اُس نہ علاقے، کے گرد ارد کے بیوق دریائے نہ اور دیا چھوڑ ملک کا عمونیوں نے تم لیکن تھا۔ کیا منع تمہیں سے کرنے ایسا